



LGBTIQ کمیونٹیوں میں گھریلو اور عائلی تشدد

آسٹریلیا میں گھریلو اور عائلی تشدد کو قبول نہیں کیا جاتا۔

جو لوگ خود کو عورت میں کشش پانے والی عورت، مرد میں کشش پانے والا مرد، خود کو مخالف صنف کا فرد، دونوں صنفوں کے بیچ اور کوئیر (Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Intersex and Queer, LGBTIQ) شناخت کرتے ہیں، وہ آسٹریلیا میں دوسروں کے برابر حقوق رکھتے ہیں اور ہر قسم کا امتیازی سلوک غیر قانونی ہے۔

آسٹریلیا میں تمام تعلقات قانون کی نظر میں برابر ہیں۔ اسکا مطلب ہے کہ ہم جنس جوڑوں سمیت تمام جوڑوں کو تعلقات استوار کرنے یا شادی کرنے کا حق حاصل ہے۔

یہ ہر شخص کا حق ہے کہ اسے اپنے خاندان، دوستوں اور پیاروں کے ساتھ مثبت اور محفوظ رشتوں کا تجربہ ہو۔

گھریلو اور عائلی تشدد آسٹریلیا کے قانون کے خلاف جرائم ہیں۔ ان جرائم کا مرتکب ہونے والا شخص جیل جا سکتا ہے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت۔

اگر آپ کو یا آپ کے کسی واقف کو کوئی خطرہ ہے تو **000** پر پولیس کو فون کریں۔

آسٹریلیا میں پولیس سے رابطہ کرنا محفوظ ہے اور پولیس پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔

مفت، رازدارانہ مشورے اور معلومات کے لیے **1800 737 732** پر **1800 RESPECT** کو فون کریں۔

اگر آپ کو مفت انٹرنیٹ (ترجمان) کی ضرورت ہو تو **131 450** پر فون کریں۔

آسٹریلیا کی حکومت کسی طرح کے حالات میں گھریلو اور عائلی تشدد کو برداشت نہیں کرتی۔

گھریلو اور عائلی تشدد میں ایسا رویہ یا دھمکیاں شامل ہیں جن کا مقصد ایک پارٹنر (ساتھ رہنے والے یا شریک حیات) کو ڈرا کر یا اس کی سلامتی کے بارے میں دھمکی دے کر کنٹرول کرنا ہو۔ گھریلو اور عائلی تشدد میں یہ شامل ہو سکتا ہے:

• مارنا؛

• گلا دینا؛

• گھر والوں یا پارٹنر کو ضرورت کے پیسوں سے محروم رکھنا؛

• پارٹنر کو دوستوں اور رشتہ داروں سے الگ رکھنا؛

• پارٹنر کی توہین کرنا یا اس پر تنقید کرنا؛ اور

• بچوں یا پالتو جانوروں کے بارے میں دھمکانا۔

LGBTIQ تعلقات میں گھریلو اور عائلی تشدد میں یہ بھی شامل ہو سکتا ہے:

• پارٹنر کے دونوں صنفوں کے بیچ ہونے، جنسی رجحان، صنف، صنفی اظہار، خود کو صنف مخالف کا فرد سمجھنے یا ایچ آئی وی کی حالت کو اس کے خلاف استعمال کرنے کی دھمکی دینا

• پارٹنر کو دھمکی دینا کہ اس کے گھر والوں، دوستوں یا کمیونٹی کے سامنے یا روزگار کے مقام پر اسکا 'پول کھول دیا جائے گا'؛

• پارٹنر کی دوائیاں کنٹرول کرنا یا صنف بدلنے کے سلسلے میں صحت کے لیے دیکھ بھال حاصل کرنے پر کنٹرول؛ یا

• پارٹنر پر سیکس یا صنف کے عام طور طریقوں پر چلنے کے لیے دباؤ ڈالنا۔

آسٹریلیا میں امدادی خدمات دستیاب ہیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں۔

LGBTIQ افراد کی صحت سے متعلق مسائل پر مفت معلومات فراہم کرتی ہے جس میں عائلی اور گھریلو تشدد پر معلومات بھی شامل ہیں۔ **www.acon.org.au** پر **ACON** کی ویب سائٹ پر **LGBTIQ** افراد کو شامل رکھنے والی امدادی خدمات کی ڈائریکٹری دیکھیں۔

1800RESPECT آسٹریلیا میں جنسی حملے، عائلی اور گھریلو تشدد کے لیے کاؤنسلنگ (ماہرانہ مشورے) کی قومی سروس ہے۔ یہ سروس فون پر اور آن لائن مفت، رازدارانہ کاؤنسلنگ اور معلومات فراہم کرتی ہے۔ کاؤنسلرز (صلاح کار) آپ کی بات سنتے ہیں، سوالات کا جواب دیتے ہیں اور آپ کے مقامی علاقے میں دوسری امدادی خدمات سے آپ کا رابطہ کرا سکتے ہیں۔

1800 737 732 پر فون کریں یا **1800RESPECT** کی ویب سائٹ **www.1800RESPECT.org.au** پر LGBTIQ افراد کے لیے خاص معلومات کا حصہ دیکھیں۔

کیا آپ کو انٹریپرٹ (ترجمان) کی ضرورت ہے؟

تحریری اور زبانی ترجمے کی سروس (**Translating and Interpreting Service, TIS**) کو **131 450** پر مفت فون کریں۔ TIS کا ترجمان دوسری خدمات سے بات کرنے میں آپ کی مدد کر سکتا ہے تاہم TIS ماہرانہ مشورہ فراہم نہیں کرتی۔ یہاں کال کرنا ہمیشہ مفت اور رازدارانہ ہوتا ہے۔